

## مولانا ابوالکلام آزاد کا تفسیری اسلوب

(سورۃ الکہف کا خصوصی مطالعہ)

*The Stylistics of Tafsir of Maulana Abul- Kalam Azad  
A Study of Sura'h Al-Kahf*

\* ڈاکٹر عبدالقادر بزدار

\*\* محمد انس حسان

### **Abstract:**

Since about the middle of the 19th century, numerous attempts have been made by Muslim scholars to interpret the Qur'ān to the modern world. By far the largest output of literature produced in this connection, whether in the form of commentaries, critiques or articles in periodical, has been in Urdu, English and Arabic. But whatever the medium of expression employed, the net result is still is far from satisfactory.

Moulana Abul Kalam Azad (1888-1958) was one of the most notable Muslim figures in Sub-continent. The Tarjuman-al-Qur'ān is regarded on all hands as his main contribution to Islamic learning. His original plan was to prepare side by side two companion volumes to this great of his, one entitled Tafsir-al-Bayana affording a detailed commentary of the Qur'ān, the other entitled Muqaddima, to serve as prolegomena to the Tarjuman -al-Qur'ān. The circumstances of his life did not allow him the time that he needed to execute the two projects. Moulana Azad, thinking and philosophy about commentary of the Qur'ān is very clear: "Explain the Qur'ān in the manner of the Qur'ān".

\* اسسٹنٹ پروفیسر، پوسٹ گریجویٹ سنٹر، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان، پاکستان۔

\*\* لیچرر شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ ڈگری کالج، جہانیاں۔

*This paper attempts to enlighten many aspects of Moulana Azad's commentary of Surat-al-Kahaf and explores his contribution and Comparative Analysis for other selected Urdu Tafasir of his era.*

- مولانا ابوالکلام آزاد (۱۹۵۸ء - ۱۸۸۸ء) کی تفسیر ترجمان القرآن جس دور میں لکھی گئی وہ مسلمانانِ ہند کے قومی، فکری اور معاشرتی تنزل کا دور تھا اور ان تمام ناکامیوں اور مایوسیوں کی بڑی وجہ قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات سے مسلمانوں کی غفلت و اعراض کا رویہ تھا۔ مولانا نے مسلمانوں کی نجاتِ فکر و حرماں کا واحد حل قرآن سے رجوع کو قرار دیا اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لئے ترجمان القرآن کی نیواٹھائی۔ قرآن کریم کی تعلیم و اشاعت کے حوالے سے مولانا کے پیش نظر درج ذیل امور تھے:
- (۱) سب سے پہلے وہ مشکلات دور ہوں جو قرآن کے فہم و تدبر کی راہ میں پیدا ہو گئی ہیں اور جن کی وجہ سے اس کی تعلیم اپنی حقیقی شکل و نوعیت میں نمایاں نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ مشکلات دور نہیں ہوتے محض قرآن کا ترجمہ کر دینا یا کسی نئی تفسیر کا لکھ دینا کچھ سود مند نہ تھا۔
- (۲) پھر ضروری تھا کہ ایسی کتاب اردو میں تیار ہو جائے جس کی نسبت و ثوق کے ساتھ کہا جاسکے کہ اس کا پڑھ لینا اور پڑھا دینا قرآن کے مقاصد و مطالب سمجھ لینے اور اسے اس کی حقیقی شکل و نوعیت میں دیکھ لینے کے لیے کافی ہے۔
- (۳) وہ نہ تو اس قدر ضخیم ہو کہ ہر شخص اس کے مطالعہ کے لیے وقت نہ نکال سکے، نہ اس قدر مختصر ہو کہ مطالب کی وضاحت تشنہ رہ جائے۔ اس کی نوعیت ترجمہ ہی کی ہو لیکن ایسا ترجمہ کہ اپنی وضاحت میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو۔
- (۴) بہ حیثیت ترجمہ اس کی نوعیت ایسی ہو کہ قرآن کے درس و مطالعہ کے لیے معیار تعلیم کا کام دے۔
- (۵) مطالب قرآنی کی عالمگیر اشاعت کے لیے اسے تمام زبانوں میں منتقل کیا جاسکے اور نقل و ترجمہ کے لیے ایک بنیادی معیار قائم ہو جائے۔<sup>(۱)</sup>

مولانا کی موجودہ تفسیر سورۃ المؤمنون تک ہے لیکن مولانا کے اپنے بیان کے مطابق وہ یہ تفسیر مکمل کر چکے تھے مگر ۱۹۲۱ء میں تحریک عدم تعاون کے دوران حکومت برطانیہ کے افسرانِ تفتیش دورانِ تلاشی دیگر قلمی مسودات کے ساتھ ترجمان القرآن کا مسودہ بھی اٹھا کر لے گئے جو پھر واپس نہ کیا گیا۔ انڈیا کانگریس لائبریری (برطانیہ) کی فہرست مخطوطات میں ترجمان القرآن کا نام بھی ملتا ہے۔ تاہم حتمی طور پر

نہیں کہا جاسکتا کہ یہ مخطوطہ / مسودہ پہلے والا ہے یا بعد والا۔ بہر حال اس واقعہ نے مولانا کی طبیعت پر بڑا گہرا اثر کیا۔ لکھتے ہیں:

”یہ میرے صبر و شکیب کے لیے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی پورا اتروں۔ یہ سب سے زیادہ تلخ گھونٹ تھا جو جام حوادث نے میرے لبوں سے لگایا لیکن میں نے بغیر کسی شکایت کے پی لیا، البتہ اس سے انکار نہیں کرتا کہ اس کی تلخی آج تک گلوگیر ہے۔“  
(۲)

اس سانحے کے بعد ایک عرصے تک مولانا کی طبیعت رکی رہی۔ لیکن اس کام کی اہمیت کی وجہ سے انہیں رہ رہ کر اس کا خیال بے چین کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ چھ سال بعد انہوں نے اس پر دوبارہ کام شروع کیا۔ لکھتے ہیں:

”طبیعت کی بڑی رکاوٹ جو رہ رہ کر سامنے آتی تھی یہ تصور تھا کہ ایک تصنیف کی ہوئی چیز دوبارہ تصنیف کی جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک اہل قلم کے لیے اس سے زیادہ مشکل اور کوئی کام نہیں۔۔۔ ۱۹۲۷ء قریب الاختتام تھا کہ اچانک مدتوں کی رکی ہوئی طبیعت میں جنبش ہوئی اور رشتہ کار کی جو گرہ ذہن و دماغ کی پیہم کوششیں نہ کھول سکیں تھیں دل کے جوش بے اختیار سے خود بخود کھل گئیں۔“ (۳)

مولانا کا ارادہ اس تفسیر کو تین حصوں میں منقسم کرنے کا تھا۔ یعنی مقدمہ تفسیر، تفسیر البیان اور ترجمان القرآن۔ مقدمہ تفسیر میں اصولی مباحث کا ذکر کیا جانا تھا، تفسیر البیان میں مطالعاتی اور دقیق علمی مباحث نے آنا تھا۔ جبکہ ترجمان القرآن، قرآن کی عالمگیر تعلیمات سے انسانیت عامہ کو متعارف کروانے کے لئے لکھی جانی تھی۔ مگر ان تینوں حصوں میں سے سب سے آخری حصے کو مولانا نے سب سے پہلے شائع کیا کیونکہ مسلمانان عالم کی درماندگیوں کو دور کرنے اور انہیں اپنا اصل چہرہ دکھلانے کے لئے سب سے پہلے ترجمان القرآن کی ضرورت تھی۔ لکھتے ہیں:

”آخری کتاب سب سے پہلے شائع کی جاتی ہے کیونکہ اپنے مقصد و نوعیت بھی اصلی بنیاد ہے۔“ (۴)

مولانا کے دور کو اس لحاظ سے اہمیت حاصل ہے کہ یہ دور اردو تفسیر کا سنہری دور ہے۔ اس دور میں متعدد ایسی تفسیریں لکھی گئیں جو اپنی علمیت اور موضوعیت کے اعتبار سے نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ مولانا کی تفسیر میں اس دور میں لکھی گئی علامہ رشید رضا مصری کی عربی تفسیر اور سر سید احمد خان کی تفسیر کا بھی گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ مولانا نے ہر اس آیت کو خصوصی اہمیت دی ہے جس پر گفتگو کرنے سے عام طور پر

دیگر مفسرین نے احتیاط برتی ہے۔ مولانا کا طرز اسلوب یہ ہے کہ وہ قوانین فطرت سے دلائل عقلی کا استنباط کرتے ہیں اور زبان کی سادگی اور سلاست کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ یقیناً مولانا کی علمی و عقلی تفسیری توجیہات سے اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن اگر ان توجیہات اور دلائل کو بنیاد بنا کر ایک سنجیدہ علمی بحث کا آغاز کیا جائے تو علم و تحقیق کے کئی نئے زاویے سامنے آسکتے ہیں۔ مولانا کی تفسیر میں سورۃ الکہف کے مضامین اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں کہ مولانا سے پہلے اردو تفاسیر میں اس طرز تحقیق کا پتہ نہیں چلتا۔ اگرچہ بعد میں مولانا مناظر احسن گیلانی (۱۹۵۶ء-۱۹۹۲ء) سمیت متعدد محققین نے خاص اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اپنی علمی نگارشات پیش کیں۔

اصحابِ کہف کے سلسلے میں مولانا کے تفسیری نکات پیش کرنے سے بیشتر مناسب ہو گا کہ اس واقعہ کا (جس کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے) سیاق و سباق معلوم کر لیا جائے۔ منکرین اسلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کئے تھے:

(۱) روح کی ماہیت کیا ہے؟

(۲) اصحابِ کہف کون تھے؟

(۳) ذوالقرنین کا کیا قصہ تھا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں کہا کہ تمہارے ان سوالات کا جواب میں کل دوں گا۔ لیکن وحی ۱۵ دنوں تک نہ آئی۔ آپ ﷺ وحی کے اس طویل تعطل سے انتہائی رنجیدہ اور غمگین ہوئے۔ نیز اس سے منکرین اسلام کو بھی مذہب اسلام پر اعتراض کرنے کا ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ”کل جواب دوں گا“ کہنے پر وعید فرمائی اور ارشاد فرمایا:

و لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله<sup>(۵)</sup>

ترجمہ: ”اور آپ کسی چیز کی نسبت یہ نہ کہہ کیجئے کہ میں اسے کل کر دوں گا۔ سوائے اس (صورت) کے کہ اسے اللہ بھی چاہے۔“

تاہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان تمام سوالات کے جوابات دیئے گئے اور ان واقعات کی مکمل تفصیل سے آگاہ کر دیا گیا۔ اصحابِ کہف کے بارے میں جو قرآنی آیات نازل ہوئیں ہیں ان کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، چونکہ وہ زمانہ عیسائیت کے آغاز کا تھا اور سلطنت روم نے جو کہ بت پرستی کا مذہب اختیار کئے ہوئے تھی اور اپنے مذہب میں قدرے تشدد و تعصب رکھتی تھی اور اس نئی دعوت کو اپنی سلطنت میں پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مذہب عیسائیت پر ظلم و

ستم کے پہاڑ توڑ دیئے۔ ان کے ان جور و مظالم سے تنگ آ کر ان نوجوانوں نے شہر سے دور جنگل کی راہ لی اور ایک وسیع و عریض غار میں جا بیٹھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے راہِ حق میں طرح طرح کی صعوبتیں اٹھائی تھیں مگر دینِ حق سے منہ نہیں موڑا تھا اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عارضی نیند طاری کر دی۔ تقریباً ۳۰۰ سال تک انہیں اسی حالت میں رکھا۔ پھر انہیں دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس کر دیا۔ مگر اس طویل عرصے میں کئی بادشاہتیں تبدیل ہو چکی تھیں۔ جب انہیں بھوک کی احتیاج ہوئی تو انہوں نے ان میں سے ایک کو کھانا لانے کے واسطے شہر بھیجا مگر چونکہ کئی حکومتمیں بدلی جا چکی تھیں اور حکومتوں کے ساتھ ان کے رائج کردہ سگے بھی تبدیل ہو گئے تھے اس لیے لوگوں نے جب ان کی قدیم وضع قطع اور پرانے سگوں کو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ انہیں بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا جس نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اسی غار میں معتکف ہو گئے اور آخر وقت اسی حالت میں رہے۔

اس تمام قصے سے کئی سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ موجودہ دور نقل در نقل کی بجائے دلائل و براہین کا دور ہے اس لئے اصحابِ کہف جس غار میں معتکف ہوئے تھے اس مقام کا تعین کیا جائے۔ یعنی ٹھوس دلائل اور مثبت شواہد سے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ غار کہاں واقع تھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی (۱۹۲۳ء-۱۸۶۳ء) لکھتے ہیں کہ تفسیر حقانی میں اس کا نام افسوس اور طرطوس ایشیائے کوچک کا ایک شہر لکھا ہے جو اب بشکل ویران قصبہ کے حضرت سلطان کی حکومت میں ہے اور آبادی سے تین کوس وہ غار کئی میل کا ہے۔<sup>(۷)</sup>

مولانا احمد سعید دہلوی (۱۹۵۲ء-۱۸۸۸ء) کے مطابق اصحابِ کہف اور اصحابِ الرقیم اکثر مفسرین کے نزدیک ایک ہی ہیں... رقیم یا تو ایلہ کے پاس کی وادی کا نام ہے یا اس عمارت کا نام ہے جو اس جگہ تعمیر کی گئی تھی یا پہاڑ کا نام ہے یا کسی اور آبادی کا نام۔ (۷) مولانا عبد الماجد دریا بادی (۱۹۷۷ء-۱۸۹۲ء) لکھتے ہیں کہ جولائی ۱۹۶۳ء اخباروں میں یہ خبر ملک ایران کے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے سے شائع ہوئی ہے کہ ایک غار شہر عمان سے نو کلومیٹر کے فاصلہ پر کھدائی میں برآمد ہوا ہے جس کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ اصحابِ کہف کا غار ہے۔<sup>(۸)</sup>

لیکن اس بارے میں مولانا آزاد کی تحقیق ان کی ہم عصر تفاسیر میں ایک منفرد اور انوکھا مقام رکھتی ہے۔ مولانا نے ”الرقیم“ کی تشریح و توضیح کے ذریعے اس واقعہ کا درست مقام متعین کیا اور اس قرآنی واقعے سے پیدا ہونے والے سوال کا عقلی دلیل سے جواب پیش کیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ کہاں پیش آیا تھا؟ قرآن نے ”کہف“ کے ساتھ ”الرقيم“ کا لفظ بھی بولا ہے اور بعض آئمہ تابعین نے اس کا یہی مطلب سمجھا تھا کہ یہ ایک شہر کا نام ہے لیکن چونکہ اس نام کا کوئی شہر عام طور پر مشہور نہ تھا اس لئے اکثر مفسر اس طرف چلے گئے کہ یہاں رقيم کے معنی کتابت کے ہیں۔ یعنی ان کے غار پر کوئی کتبہ لگا دیا گیا تھا۔ اس لیے کتبہ والے مشہور ہو گئے۔ لیکن اگر انہوں نے تورات کی طرف رجوع کیا ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ ”رقيم“ وہی لفظ ہے جسے تورات میں ”راقيم“ کہا گیا ہے اور یہ فی الحقیقت ایک شہر کا نام تھا جو آگے چل کر ”پیٹرا“ کے نام سے مشہور ہوا اور عرب اسے ”بطرا“ کہنے لگے۔ عالمگیر جنگ کے بعد آثارِ قدیمہ کی تحقیقات کے جوئے نئے گوشے کھلے ہیں۔ ان میں ایک پیٹرا بھی ہے اور اس کے انکشافات نے بحث و نظر کا ایک نیامیدان مہیا کر دیا ہے۔ جزیرہ نما سینا اور خلیج عقبہ سے سیدھے شمال کی طرف بڑھیں تو دو پہاڑی سلسلے متوازی شروع ہو جاتے ہیں اور سطح زمین بلندی کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ یہ علاقہ نبطی قبائل کا علاقہ تھا اور اسی کی ایک پہاڑی سطح پر ”راقيم“ نامی شہر آباد تھا۔ دوسری صدی عیسوی میں جب رومیوں نے شام اور فلسطین کا الحاق کر لیا تو یہاں کے دوسرے شہروں کی طرح ”راقيم“ نے بھی ایک رومی نوآبادی کی حیثیت اختیار کر لی اور یہی زمانہ ہے جب ”پیٹرا“ کے نام سے اس کے عظیم الشان مندروں اور تھیٹروں کی شہرت دور دور تک پہنچی۔ ۶۳۰ء میں جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو ”راقيم“ کا نام بہت کم زبانوں پر رہا تھا۔ یہ رومیوں کا پیٹرا اور عربوں کا بطرا تھا۔ جنگ کے بعد سے اس علاقہ کی از سر نو اثری پیمائش کی جاری رہی ہے اور نئی نئی باتیں روشنی میں آرہی ہیں۔ ازاں جملہ اس علاقہ کے عجیب و غریب غار ہیں جو دور دور تک چلے گئے ہیں اور نہایت وسیع ہیں نیز اپنی نوعیت میں ایسے واقع ہوئے ہیں کہ دن کی روشنی کسی طرح بھی ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک غار ایسا بھی ملا ہے جس کے دہانہ کے پاس قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بے شمار ستونوں کی کرسیاں شناخت کی گئی ہے خیال کیا گیا ہے کہ یہ کوئی معبد ہو گا جو یہاں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس شناخت کے بعد قدرتی طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ اسی شہر میں پیش آیا تھا اور قرآن نے صاف صاف اس کا نام ”الرقيم“ بتلا دیا ہے۔“ (۹)

یہ واقعہ عربوں میں ایک دیومالائی قصہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ مولانا نے اس مسئلے کو بھی کہ اس کی شہرت عربوں میں کہاں سے پہنچی؟ اپنے پچھلے موقف کی تائید میں پیش کیا ہے۔ چونکہ عربوں کے وسائل معلومات محدود تھے اس لئے یہ گمان یقین کی حد تک کیا جا سکتا ہے کہ ان تک یہ خبر قرب و جوار کے کسی علاقے سے پہنچی ہو۔ اس سوال کے جواب میں کہ ایسے لوگ کون ہو سکتے ہیں جن سے عربوں

کے انتہائی قریبی تجارتی تعلقات تھے۔ مولانا کے مطابق اگر اسے پیڑا کا واقعہ قرار دیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اول تو خود یہ مقام عرب سے قریب تھا۔ یعنی عرب کی سرحد سے ساٹھ ستر میل کے فاصلے پر تانیا نبطیوں کی وہاں آبادی تھی اور نبطیوں کے تجارتی قافلے برابر حجاز میں آتے رہتے تھے۔ یقیناً نبطیوں میں اس واقعے کی شہرت ہو گی اور انہی سے عربوں نے سنا ہو گا... ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شام کے غزوات میں بعض صحابہ کا گزر اصحاب کہف کی غار پر ہوا تھا اور انہیں ان کی ہڈیاں ملی تھیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس سے اس کی بھی مزید تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعہ پیڑا میں پیش آیا تھا۔<sup>(۱۰)</sup>

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی (۱۹۴۹ء - ۱۸۸۶ء) نے مجملًا اس کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ چند نوجوان روم کے کسی ظالم و جبار بادشاہ کے عہد میں تھے، جس کا نام بعض نے ”دقیانوس“ بتلایا ہے۔<sup>(۱۱)</sup>

مولانا عبدالمجاہد دریا بادی نے اس کی قدرے توضیح فرمائی ہے۔ ان کے مطابق رومی شہنشاہ ڈی سیس (DECIUS) یا دقیانوس (متوفی ۳۵۱ء) اپنے مذہب بت پرستی میں غلو رکھتا تھا۔ مسیحی مذہب نیا نیا اس کے زمانے میں سلطنت روم میں پھیل رہا تھا۔ اس نے عیسائی موحدین پر سختی شروع کی۔ اس سے تنگ آ کر چند شریف نوجوان شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور قریب کے ایک پہاڑی غار میں جا کر پناہ لی۔ وہاں ان پر ایک غیر طبعی بلکہ خارق عادت نیند مسلط ہو گئی اور وہ کچھ اوپر تین سو سال تک سوتے رہے اور جب ایک اعجازی انداز سے جاگے تو خود رومی حکومت کا مذہب اس طویل مدت کے درمیان میں شرک سے مسیحیت میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس وقت حکمراں شہنشاہ تھیوڈوسیوس (متوفی ۴۵۰ء) تھا۔ لیکن حافظ ابن کثیر نے اپنا خیال غالب یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ قصہ ظہور مسیح سے قبل دور یہودیت کا ہے، ورنہ یہود اتنا اس کے کھوج میں نہ رہتے اور اس قدر اعتناء و التفات اس کی جانب نہ کرتے۔<sup>(۱۲)</sup>

مولانا آزاد کی تحقیق سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عیسائیت کے ابتدائی ادوار میں پیش آیا اور اس وقت بادشاہ دقیانوس نامی ایک شخص تھا لیکن اس جگہ فی الحقیقت سب سے عمدہ تفسیر مولانا عبدالمجاہد دریا بادی ہی کی ہے۔ ان کی تفسیر کی روشنی میں اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے آخر یا تیسری صدی عیسوی کے آغاز میں پیش آیا، جب عیسائی مذہب انتہائی کمپرسی کی حالت میں اپنے دن گزار رہا تھا۔

ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس غار کی نوعیت کیا تھی؟ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

" وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ <sup>(۱۳)</sup>

”ترجمہ: اور وہ جس غار میں جا کر بیٹھے وہ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے دہنے جانب سے ہٹا ہوا رہتا ہے اور جب ڈوبے تو بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے (یعنی کسی حال میں بھی اس کی شعاعیں اندر نہیں پہنچتیں) اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پڑے ہیں۔“  
مولانا اشرف علی تھانویؒ کے مطابق غار کی داہنی اور بائیں جانب یا تو اس میں داخل ہونے والے کے اعتبار سے ہے یا اس کے خارج ہونے والے کے اعتبار سے۔ پس تقدیر اول پر وہ غار شمال رویہ ہوگا اور تقدیر ثانی پر جنوب رویہ اور شرق رویہ ہونے میں طلوع کے وقت ان پر دھوپ پڑتی ہے اور غرب رویہ ہونے میں غروب کے وقت اور مقصود اس سے اس جگہ کا محفوظ ہونا ہے۔ <sup>(۱۴)</sup>

مولانا احمد سعید دہلویؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کھوہ (غار) کا جائے وقوع کچھ ایسا واقع ہوا ہے اور شمال رویہ یا غروب رویہ کچھ اس طرح سے وہ کھوہ واقع ہوئی ہے کہ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت دھوپ ان اصحاب کہف سے بچ کر نکل جاتی ہے اور ان کو تکلیف نہیں ہوتی وہ ایک کشادہ مکان میں ہیں یعنی پہاڑ کے اندر کھوہ بعض حصے تنگ اور بعض کشادہ ہوتے ہیں تو وہ اصحاب کہف ایک ایسے حصے میں ہیں جو فراخ اور کشادہ ہے جہاں روشنی بھی ہے اور ہوا بھی۔ <sup>(۱۵)</sup>

مولانا عبد الماجد دریابادیؒ نے اس کی توضیح انتہائی عمدہ کی ہے۔ ان کے مطابق کوہستانی غار اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اندر ہی اندر بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ شہر افسوس کا عرض بلد درجہ ۳۸ شمال ہے، ایسے مقام پر جو غار شمال رویہ ہوگا اس کے اندر سورج کی شعاعیں قدرتاً داخل ہو سکیں گی اور اس کے اندر رہنے والے اگر شمال ہی کی طرف رخ رکھیں گے تو دھوپ کی تیزی سے برابر امن میں رہیں گے۔۔۔ یہ قصہ جو اوپر مع اپنی جزئیات و تفصیلات کے بیان ہوا یہ حق تعالیٰ کی قدرت، حکمت و ربوبیت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے غار کے جو اتنے جغرافیائی جزئیات بیان کئے ہیں، یہ سب خواجواہ اور بے معنی نہیں، یقیناً اس غار کی تحقیق کسی دن ہو کر رہے گی اور اس وقت ان جزئیات کا انطباق اس پر حرف بہ حرف ہو کر رہے گا۔ <sup>(۱۶)</sup>

مولانا آزادؒ نے اس آیت کی تفسیر میں چند انتہائی قیمتی نکات بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ: ”وہ (غار) اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اگرچہ اندر سے کشادہ ہے اور دہانہ کھلا ہوا، لیکن سورج کی کرنیں اس میں راہ نہیں پاسکتیں۔ نہ تو چڑھے دن میں نہ ڈھلتے میں، جب سورج نکلتا ہے تو دہنی جانب رہتے



ہوئے گزر جاتا ہے۔ جب ڈھلتا ہے تو بائیں جانب رہتے ہوئے غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی غار اپنے طول میں شمال و جنوب رویہ واقع ہے۔ ایک طرف دہانہ ہے۔ دوسری منقذ۔ روشنی اور ہوا دونوں طرف سے آتے ہیں لیکن کسی طرف سے بھی راہ نہیں پاسکتی۔ اس صورت سے بیک وقت دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ زندہ رہنے کے لئے وہ نہایت محفوظ اور موزوں مقام ہے کیونکہ ہوا اور روشنی کی راہ موجود ہے مگر دھوپ کی تپش پہنچ نہیں سکتی۔ پھر اندر سے کشادہ ہے۔ جگہ کی کمی نہیں۔ دوسری یہ کہ باہر سے دیکھنے والوں کے لئے اندر کا منظر بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے۔ کیونکہ روشنی کے منافذ موجود ہیں اس لئے بالکل اندھیرا نہیں رہتا۔ سورج کسی وقت سامنے آتا نہیں اس لئے بالکل اجالا بھی نہیں ہوتا، روشنی اور اندھیری کی ملی جلی حالت رہتی ہے اور جس غار کی اندرونی فضا ایسی ہو اسے باہر سے جھانک کر دیکھا جائے تو اندر کی ہر چیز ضرور ایک بھیانک منظر پیش کرے گی۔“ (۱۷)

چونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ ہم انھیں کافی کافی عرصے بعد اٹھ پلٹتے رہتے تھے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ الٹنا پلٹنا کیسے ہوتا ہوگا؟ تو مولانا کے مطابق بالمقابل منافذ ہونے کی وجہ سے ہوا برابر اندر چلتی رہتی تھی اور ان کے ڈھانچے داہنے سے بائیں اور بائیں سے دہنی جانب اس طرح متحرک رہتے تھے جیسے ایک زندہ آدمی ایک طرف سے پلٹ کر دوسری دیکھے۔۔۔ وہ اس طرح کی غار تھی کہ انسانی جسم زیادہ سے زیادہ عرصہ تک اس میں قائم رہ سکتے تھے۔ کیونکہ سورج کی روشنی اس میں پہنچتی رہتی، لیکن سورج کی تپش کا اس میں گزرنہ تھا، جو چیز نغش کو جلا گلا سڑا دیتی ہے وہ سورج کی تپش ہے اور جو چیز تازگی پیدا کرتی ہے وہ ہوا اور روشنی ہے۔ ہوا چلتی رہتی تھی۔ روشنی پہنچتی رہتی ہے، مگر تپش سے پوری حفاظت تھی۔ (۱۸)

سورۃ الکہف کے آخر میں منکرین اسلام کے تیسرے سوال یعنی حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ منکرین اسلام میں سے یہود نے یہ سوال آخضر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور چونکہ یہ قصہ صرف انہی کے نودرات میں لکھا تھا اس لئے ان کا خیال تھا کہ آخضر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے پائیں گے۔ مگر قرآن نے اس کی انتہائی خوبصورت تشریح فرمائی اور ان پر اپنی حجت تمام کر دی۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں اکثر مفسرین متذنب کا شکار رہے ہیں کہ وہ کون تھے۔

مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کی مکمل تصریح نہیں فرمائی کہ آیا وہ کون تھے۔ ان کے مطابق ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کوئی مقبول بزرگ بادشاہ ہیں خواہ نبی ہوں یا ولی ہوں کسی دوسرے نبی کے متبع۔ (۱۹) مولانا شبیر احمد عثمانی کی رائے بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ (۲۰) مولانا احمد سعید دہلوی نے اس پر بحث فرمائی ہے اور آخری فیصلہ یہی دیا ہے کہ یہ لقب اسکندریونانی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک کافر و فاسق شخص

تھا جبکہ قرآن میں اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو بھی تھا کوئی نیک اور ولی شخص تھا۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”سکندر ذوالقرنین کے متعلق عام طور پر اہل تاریخ کا خیال یہ ہے کہ یہ سکندر وہ ہے جس کا پایہ تخت یونان تھا اور یہی اسکندر یہ کا بانی تھا۔ یہ سکندر حضرت مسیح سے تقریباً تین سو برس پہلے ہوا تھا۔ کسی نے کہا وہ ایک رومی جوان تھا۔ کسی نے کہا اس کا نام عبد اللہ بن ضحاک تھا۔ لیکن سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذوالقرنین دو ہوئے ہیں ایک وہ جو یونانی ہے اور ایک وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے اور ملت ابراہیمی کا پیرو تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے یہ وہی ذوالقرنین ہے۔۔۔ یہ ذوالقرنین نبی ہو یا نہ ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ سکندر ایک صالح، دیندار، مومن اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔۔۔ اور یونانی سکندر کافر اور اس کا وزیر ارسطو تھا۔“ (۲۱)

اس تمام بحث کو گویا مولانا نے سکندر ہی پر ختم کیا۔ مگر چونکہ سکندر سے کفر کا شبہ بھی لازم آتا تھا اس لئے حضرت سہیل کی روایت کو ترجیح دے کر اس شبہ کا بھی ازالہ کیا اور اپنا مطلب بھی بیان کر گئے۔ قدیم مفسرین نے ذوالقرنین کے حوالے سے پانچ اقوال نقل کئے ہیں:

- (۱) یمن کا ایک مشہور بادشاہ العصب بن قرین بن الہمال
- (۲) سرحد ایران و عرب کے خاندان لخمیہ کا فرمانروا منذ بن امری القیس
- (۳) یونان کا مشہور بادشاہ اسکندر مقدونی
- (۴) حضرت ابراہیم کا معاصر مشہور موحد اسکندر
- (۵) ایران کا مشہور شہنشاہ سائرس اعظم

مولانا دریا بادئی کے مطابق ظاہر ہے کہ جس شخصیت کی تصریح سے قرآن بھی قاصر ہوا اور حدیث صحیح بھی اور تاریخ میں بھی کوئی واضح و متعین جواب نہ ملتا ہو، تو اس کے متعلق صرف قرآن و قیاسات ہی قائم کر سکتے ہیں، کسی قطعی و حتمی تحقیق کی کوئی صورت ہی نہیں۔ (۲۲)

مفسرین کو ذوالقرنین کی ذات کی تفسیر میں انتہائی تکلیفیں اٹھانا پڑیں اور جس کے جو سمجھ میں آیا اس نے بیان کر دیا، مگر کوئی بھی اس کی تحقیق پر یقین طریقہ پر پیش نہ کر سکا کہ وہ کون تھا؟ مولانا آزاد نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ یہ شخص دراصل ”سائرس اعظم“ ہے۔ جس کا زمانہ ۵۵۹ قبل از مسیح ہے اور

وہ انتہائی بردبار، رحمدل اور بہادر انسان تھا۔ جس نے دنیا کا متعدد بہ حصہ اپنے تدریس، تفکر اور بلند حوصلہ کے ذریعے فتح کر ڈالا تھا۔ لکھتے ہیں کہ:

”سب سے پہلا حل طلب مسئلہ جو مفسرین کے سامنے آیا وہ اس کے لقب کا تھا۔ عربی میں بھی عبرانی میں بھی ”قرن“ کے صاف معنی سینگ کے ہیں۔ پس ”ذوالقرنین“ کا مطلب ہو ادو سینگوں والا، لیکن چونکہ تاریخ میں کسی ایسے بادشاہ کا سراغ نہیں ملا جس کا ایسا لقب رہا ہو، اس لئے مجبوراً ”قرن“ کے معنی میں طرح طرح کے تکلفات کرنے پڑے۔ پھر چونکہ فتوحات کی وسعت اور مغرب و مشرق کی حکمرانی کے لحاظ سے سکندر مقدونی کی شخصیت سب سے زیادہ مشہور رہی ہے، اس لیے متاخرین کی نظریں اسی کی طرف اٹھ گئیں۔ چنانچہ امام رازیؒ نے سکندر ہی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے اور اگرچہ حسب عادت وہ تمام اعتراضات نقل کر دیئے ہیں جو اس تفسیر پر وارد ہوتے ہیں لیکن پھر حسب عادت ان کے بے محل جوابات پر مطمئن بھی ہو گئے ہیں، حالانکہ کسی اعتبار سے بھی قرآن کا ذوالقرنین، سکندر مقدونی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو وہ خدا پرست تھا نہ عادل تھا نہ مفتوح قوموں کے لئے فیاض تھا اور نہ ہی اس نے کوئی سد بنائی۔ بہر حال مفسرین ذوالقرنین کی شخصیت کا سراغ نہ لگا سکے۔“ (۲۳)

ذوالقرنین کا اگر کوئی سراغ ملتا ہے تو وہ دانیال کی کتاب میں ملتا ہے جس میں انہوں نے خواب میں دو سینگوں والے بکرے کو پوری دنیا فتح کرتے دیکھا تھا۔ مولانا سوال کرتے ہیں وہ دو سینگوں والا بکرا کون تھا اور خود ہی جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ حضرت دانیال (بنی اسرائیل کے نبی) کا معاصر سائرس اعظم تھا۔ جس نے لیڈیا اور فارس کو ایک کر دیا اور بابل جس میں یہودیوں کی حالت جانوروں سے بھی پست تھی، غلامی اور محکومی سے چھٹکارا دلوا دیا۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اہل یہود نے ذوالقرنین کا سوال یونہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا تھا، اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ اہل یہود، ذوالقرنین کے اس احسان کے نتیجے میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے مگر چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا علم ماسوائے ہمارے اور کسی کو نہیں اس لئے سوال کیا۔ ذوالقرنین اور سائرس کی ان کڑیوں کو ملانے کے باوجود اس کو کوئی حتمی یا تاریخی شہادت نہیں کہا جاسکتا تھا، لیکن مولانا نے ایک انتہائی اہم اور مضبوط شہادت سے یہ ثابت کیا کہ سائرس ہی ذوالقرنین تھا۔ لکھتے ہیں:

”لیکن ۱۸۳۷ء کے ایک انکشاف نے جس کے نتائج بہت عرصے کے بعد منظر عام پر آئے، اس قیاس کو ایک تاریخی حقیقت ثابت کر دیا اور معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت شہنشاہ سائرس کا لقب ذوالقرنین تھا اور یہ محض یہودیوں کا کوئی مذہبی تخیل نہ تھا بلکہ خود سائرس کا یا باشندگان کا مجوزہ اور پسندیدہ نام تھا۔ اس

انکشاف نے شک و تخمین کے تمام پردے اٹھا دیئے۔ یہ خود سائرس کی ایک سنگی تمثال ہے جو اصطخر (Pasargadac) کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی۔ اس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔<sup>(۲۴)</sup> اس پر ایک اور قرینہ مولانا ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

”سدی کی ایک روایت میں بھی جو قریباً وغیرہ نے نقل کی ہے اس طرف صریح اشارہ ملتا ہے۔ قال قالت اليهود أخبرنا عن نبی لم يذكره الله في التوراة الا في مكان واحد. قال ومن؟ قالوا ذوالقرنین یعنی یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نبی کی نسبت ہمیں خبر دیجئے جس کا نام تورات میں صرف ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ کون؟ کہا ذوالقرنین۔ چونکہ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا اشارہ صرف دانیال نبی کے خواب میں آیا ہے، اس لیے یہودیوں کا یہ بیان ٹھیک ٹھیک اسی طرف اشارہ تھا۔ علاوہ بریں سائرس کی تمثال کے انکشاف نے قطعی طور پر یہ بات آشکار کر دی ہے کہ اس کے سر پر دو سینگوں کا تاج رکھا گیا تھا اور یہ فارس اور مادہ کے اجتماع و اتحاد کی علامت تھی۔“<sup>(۲۵)</sup>

ان تمام شواہد کے بعد اب سب سے بڑی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ ان (ذوالقرنین اور سائرس) کے اوصاف میں کس قدر مطابقت اور ہم آہنگی تھی۔ قرآن کے مطابق وہ انتہائی رحم دل انسان تھا۔ اسے مغرب میں جن لوگوں پر حکومت ملی تھی باوجود اس کے کہ وہ انہیں سزا دینے کا حق رکھتا تھا لیکن اس نے رحم دلی سے کام لیا اور ان سب کو معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ سائرس کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب اسے لیڈیا کی فتح حاصل ہوئی تو باوجود اس کے کہ وہ سزا دینے کا حق رکھتا تھا اور باشندگان لیڈیا بھی اپنی سرکشی کے باعث سزا پانے کا حق رکھتے تھے، اس نے ان سب کو معاف کر دیا۔ مولانا نے اس سلسلے میں سائرس کے بارے میں یونانی مورخین کے اقوال بھی نقل کئے ہیں اور ساتھ ہی اس کی بھی تصریح کر دی ہے کہ یہ تمام مورخین اس کے ہم مذہب، ہم قوم یا ہم وطن نہیں تھے اور ان کا زمانہ بھی سائرس کے کافی بعد کا ہے مگر ان تمام تر عناصر کے باوجود وہ اس کی شان اور فضیلت بیان کرنے میں رطب اللسان ہیں۔ ان مورخین کے اقوال کا مقابلہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے اوصاف سے کروایا جائے تو دونوں میں گہری مشابہت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔

مولانا نے سائرس اور سکندر مقدونی کے اوصاف اور ان کی فتوحات کی نوعیت کا فرق واضح کیا ہے اور مفسرین کے اس طبقے کا مکمل رد کر دیا ہے جو سکندر مقدونی ہی کو ذوالقرنین بنانے پر مصر ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں:

”سکندر اعظم کو ارسطو کی تعلیم و تربیت نے تیار کیا تھا اور بلاشبہ وہ بہت بڑا فاتح نکلا، لیکن کیا انسانیت و اخلاق کا بھی کوئی گوشہ فتح کر سکا؟ سائرس کے لئے ہمیں کوئی ارسطو نہیں ملتا، اس نے انسانی حکمت کی درسگاہ کی جگہ قدرت کی درسگاہ میں پرورش پائی تھی۔ تاہم اس نے سکندر کی طرح صرف ملکوں ہی کو نہیں بلکہ انسانیت و فضائل کی مملکتوں کو بھی مسخر کر لیا تھا! سکندر کی تمام فتوحات کی عمر اس سے زیادہ نہ تھی، جتنی خود اس کی عمر تھی، لیکن سائرس کی فتوحات نے جو اینٹیں چن دی تھیں وہ دو سو برس تک نہ ہل سکیں۔ سکندر کی فتوحات صرف جسم کی فتوحات تھیں، جنہیں قہر و طاقت نے سر کیا تھا، لیکن سائرس کی فتوحات روح و دل کی فتوحات تھیں جنہیں انسانیت اور فضیلت نے سر کیا تھا۔ پہلی سر اٹھاتی ہے اور نکلتی نہیں، دوسری ٹک جاتی ہے اور ٹلتی نہیں۔“ (۲۶)

مولانا کی اس تمام تحقیق کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ سائرس ہی دراصل ذوالقرنین تھا، کیونکہ تاریخ و جغرافیائی شواہد اور دلائل اسی کی توثیق کرتے ہیں۔ مگر یہ بحث ابھی مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اگر سائرس ہی کو ذوالقرنین مان لیا جائے تو اس کا سب سے کڑا امتحان سائرس کے مذہب کی تحقیق کے بارے میں اب بھی باقی رہ جاتا ہے۔ قرآن کی آیات ثابت کرتی ہیں کہ ذوالقرنین موحد تھا۔ اب دیکھا جائے گا کہ کیا سائرس بھی موحد تھا؟ اور اگر غور کیا جائے تو اس امتحان میں پاس ہو جانے کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں بچتی کہ سائرس کو ذوالقرنین تسلیم نہ کر لیا جائے۔

مولانا کا کہنا ہے کہ سائرس مذہب زردشت کا پیروکار تھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس کی وضاحت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ زردشت مذہب ابتداء میں وحدانیت پرست مذہب کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی تمام تر تعلیمات انسانیت کی فلاح و بہبود اور ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتی تھیں۔ مگر صدیوں سے رائج مجوسیت کی تعلیمات سے یہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس کے خالص توحیدی اعتقادات کو ثنویت کے اعتقادات نے خود میں مدغم کرنے کی کوشش کی۔ مولانا کے مطابق جس طرح روم کی مسیحیت قدیم رومی بت پرستی کے رد عمل سے محفوظ نہ رہ سکی، اسی طرح زردشت کی خالص خدا پرستانہ تعلیم بھی قدیم مجوسیت کے رد عمل سے بچ نہ سکی۔ خصوصاً ساسانی عہد میں جب وہ از سر نو مدون ہوئی تو اصل تعلیم سے بالکل ایک مختلف چیز بن چکی تھی۔ (۲۷)

مولانا کی تحقیق کے مطابق زردشت کی وفات ۵۵۰ قبل از مسیح سے ۵۸۳ قبل از مسیح ہے جبکہ سائرس کی تخت نشینی کا واقعہ تمام مورخین کی شہادتوں کی روشنی میں ۵۵۰ قبل از مسیح میں پیش آیا۔ اس سے مولانا نے ثابت کیا کہ سائرس، زردشت کا ہم عصر تھا، اس نے زردشت سے اس کی تعلیمات کو سمجھا اور اسی مذہب کو قبول کر لیا اور اس لحاظ سے وہ سب سے پہلا بادشاہ تھا جسے زردشت مذہب کا سب سے پہلا فرمانروا ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ چونکہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے حوالے سے جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ”قلنا“ کا ہے یعنی:

” قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِنَّمَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (۲۸) ”

ترجمہ: ”ہم نے کہا ہے ذوالقرنین (اب یہ لوگ تیرے اختیار میں ہیں) تو چاہے انہیں عذاب میں ڈالے، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا بنالے۔“

چنانچہ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تو ہمیشہ نبی ہی سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے اور قرآن میں جہاں جہاں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے وہ نبی ہی کے لئے استعمال ہوا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ذوالقرنین اللہ کے برگزیدہ نبی تھے؟ اس جگہ پر ان مفسرین کا استدلال بے بنیاد ہوتا نظر آتا ہے جو سکندر مقدونی ہی کو ذوالقرنین بنانا چاہتے ہیں۔ اب اپنی دلیل میں وہ ”قلنا“ کے منطوق کی بجائے اس کے مفہوم کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ اس مفروضہ کو کسی صورت قبول نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا آزاد نے اس کی مختلف توجیہات بیان فرمائی ہیں۔ لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ ”قلنا“ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالواسطہ خطاب ہو یعنی اس عہد کے کسی پیغمبر کے ذریعے ذوالقرنین کو مخاطب کیا گیا ہو جیسا کہ قلنا اضربوه ببعضها (۲: ۷۳) میں ہے۔ یا خطاب قولی نہ ہو، تکوینی ہو جیسا کہ قیل یا ارض ابلعی ماء ک ویا سماء اقلعی (۱۱: ۴۴) اور قلنا یا نار کوئی بردا و سلاما علی ابراہیم (۲۱: ۶۹) وغیرہ آیات میں ہے۔ لیکن اس طرح کا مطلب جب ہی قرار دینا چاہئے کہ اس کے لئے قوی وجوہ موجود ہوں اور یہاں کوئی وجہ موجود نہیں۔ آیت کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا اور اس پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ وحی نبوت کی وحی تھی یا اس طرح کی وحی تھی جیسی حضرت موسیٰ کی والدہ کی نسبت بیان کی گئی ہے کہ واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ (۷: ۲۸) تو صحابہ و سلف سے جو تفسیر منقول ہے تو وہ یہی ہے کہ ذوالقرنین نبی تھا اور متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر بھی اسی تفسیر کی تائید کرتے ہیں۔“ (۲۹)

مفسرین کے لئے ایک اور الجھن یا جوج و ماجوج سے متعلق رہی ہے۔ یہ کون تھے؟ اور ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ مختلف حضرات نے مختلف آراء اس بارے میں دی ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس موضوع پر کہ یا جوج و ماجوج کون تھے؟ واللہ اعلم کے الفاظ پر اکتفا کیا ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک ضعیف روایت کعب احبار کی نقل کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

”کعب احبار نے فرمایا اور نووی نے فتاویٰ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حواتک نہیں پہنچتا۔ گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہوئے۔“ (۳۰)

اگر مولانا کا یہ جواب درست مان لیا جائے تو اس سے چند شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اس تفسیر سے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر حرف لازم آتا ہے یعنی یہ کہ قرآن، حدیث اور تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حوا کے علاوہ کوئی اور بیوی بھی تھیں۔ ایسی صورت میں یہ روایت یا جوج ماجوج کی وضاحت کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک ذات پر ایک انتہائی ناشائستہ الزام چھوڑ جاتی ہے۔ اس روایت کے راوی کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو اسماء الرجال کی متعدد کتب اس کو غیر ثقہ اور واضح حدیث تسلیم کرتی ہیں۔ مولانا احمد سعید دہلوی نے بھی کشف الرحمن میں اس کے متعلق کوئی تحقیقی قول نقل نہیں کیا اور اس معاملہ کو مستقبل کے انکشافات پر اٹھا دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”یا جوج و ماجوج کوئی غیر معمولی طاقت کی مالک ہوگی۔ اگرچہ اس وقت تک اس قوم کا پتہ اور اس دیوار کا سراغ نہیں مل سکا لیکن کیا عجب ہے کہ مستقبل قریب میں یا بعید میں پتہ لگ جائے۔ جس طرح بعض براعظم اب سے پہلے معلوم نہ تھے اور بعد میں معلوم ہوئے۔“ (۳۱)

مولانا دریا بادی نے اس پر تفصیل سے مختلف اقوال بڑی تحقیق و تدقیق کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ مگر اپنی کوئی حتمی اور قطعی رائے قائم نہیں کی۔ ان کے مطابق بہ ظاہر یہ منگولی قبیلے کے معلوم ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی دوسری طرف آباد تھے، اور کبھی کبھی موقع پا کر یلغار کرتے ہوئے تڑکوں کے درمیان گھس آتے تھے۔ یا جوج اور ماجوج کا اشتقاق اہل لغت نے مادہ ”ج“ سے کیا ہے، جس کے معنی آگ کے شعلہ مارنے اور پانی کے تموج و تلاطم کے ہیں۔ ان کے یہ نام ان کی شدتِ شورش کی بنا پر پڑے۔۔۔ عہدِ عتیق کے صحیفہ خرتی ایل کے باب ۳۸-۳۹ میں یا جوج و ماجوج کا ذکر بار بار آیا ہے اور پیشین گوئیاں بھی درج ہیں لیکن کچھ تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں۔ بائبل کے شارحین بھی آج تک ان کی تعیین میں

مضطرب ہیں۔ کوئی یاجوج و ماجوج کو دو قومیں قرار دیتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یاجوج قوم کا نہیں مقام کا نام ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یاجوج یافث بن نوح کی نسل سے ہے۔ عام طور پر ان لوگوں کی سکونت ایشیاء کوچک اور آرمینیا میں سمجھی گئی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ وہی قومیں ہیں جو سستیسین (Saythins) یا تورانی کہلاتی ہیں۔ بہر حال بائبل اور اس کی شروح سے قرآنی یاجوج و ماجوج پر کچھ زیادہ روشنی نہیں پڑتی۔<sup>(۳۲)</sup>

مولانا آزاد نے بھی عہدِ عتیق کی روایت کو بنیاد بنایا ہے جس میں یاجوج و ماجوج کے بارے میں مختلف پیشین گوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ مگر مولانا نے یہاں ایک اور نقطہ بیان کیا کہ یاجوج و ماجوج کی اس روایت سے پہلے سائرس کا ذکر تفصیلاً آیا ہے اور یہودیوں کی آزادی سائرس کے ہاتھوں ہونے کی پیشین گوئیاں بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے فوراً بعد یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں پیشین گوئیاں ایک وقت میں پیش آئیں اور ان کا زمانہ قریب قریب ہے اور اس سے مولانا اپنے دعویٰ (یعنی ذوالقرنین و سائرس کی مشابہت) میں بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں صاف صاف کہا۔ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے حملوں کی روک تھام کے لئے ایک سد (دیوار) تعمیر کر دی تھی اور یہی واقعہ سائرس کے ساتھ بھی پیش آیا۔ لہذا یہ ذوالقرنین کے سائرس ہونے کی ایک اور دلیل ہوئی۔

اس سوال کے جواب میں کہ یاجوج و ماجوج کون تھے، مولانا کی تحقیق یہ ہے کہ تمام تاریخی قرآن متفق طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سے مقصود صرف ایک ہی قوم ہو سکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی شمال مشرقی میدانوں کے وہ وحشی مگر طاقتور قبائل جن کا سیلاب قبل از تاریخ سے لے کر نویں صدی مسیحی تک برابر مغرب کی طرف امنڈتا رہا، جن کے مشرقی حملوں کی روک تھام کے لئے چینوں کو سینکڑوں میل لمبی دیوار چین بنانی پڑی تھی، جن کی مختلف شاخیں تاریخ میں مختلف ناموں سے پکاری گئی ہیں اور جن کا آخری قبیلہ یورپ میں میگر کے نام سے روشناس ہوا اور ایشیاء میں تاتاریوں کے نام سے۔ اس قوم کی ایک شاخ تھی جسے یونانیوں نے سیتھین (seythian) کے نام سے پکارا ہے اور اسی کے حملوں کی روک تھام کے لئے سائرس نے سد تعمیر کی تھی۔ شمال مشرق کے اس علاقے کا بڑا حصہ اب منگولیا کہلاتا ہے۔ لیکن ”منگول“ لفظ کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ اس کے لئے جب ہم چین کے تاریخی مصادر کی طرف رجوع کرتے ہیں (اور ہمیں اسی طرف رجوع ہونا چاہئے کیونکہ وہ منگولیا کے ہمسایہ میں ہے) تو



معلوم ہوتا ہے کہ قدیم نام ”موگ“ تھا یقیناً یہی ”موگ“ ہے جو چھ سو برس قبل مسیح یونانیوں میں ”ینگ“ اور ”میگاگ“ پکارا جاتا ہوگا اور یہی عبرانی میں ”ماجوج“ ہو گیا۔<sup>(۳۳)</sup>

اس قوم کی بربریت کا اندازہ ساتویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے خلاف اس قوم کے خروج سے لگایا جاسکتا ہے، جسے اسلامی مملکت کی کوئی تمدن اور ترقی یافتہ سلطنت بھی نہ روک سکی۔ وسط ایشیاء سے لے کر عراق تک کوئی ملک بھی ایسا نہ بچا جو ان کی بربریت کا شکار نہ ہوا ہو۔ منگولوں کی اس بربریت کو اگر یاجوج و ماجوج کے وحشیانہ طرز عمل پر منطبق کیا جائے تو ان کے مابین کوئی فرق باقی نہیں بچتا۔ مولانا کے مطابق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یاجوج و ماجوج سے مقصود یہی منگولین قوم اور اس کی تمام صحرا نورد اور وحشی شاخیں ہیں۔<sup>(۳۴)</sup>

سورہ انبیاء کے تشریحی نوٹ میں مولانا نے بخاری شریف کی ایک حدیث (جس کی راوی حضرت زینبؓ ہیں) کا ذکر کیا ہے۔ جس میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کا چہرہ مبارک شدتِ تاثر کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ اس شر سے جو عرب کے قریب آگیا افسوس! پھر انگلی کے اشارے سے بتایا کہ یاجوج و ماجوج کی روک میں اتنا (ایک سگہ کے برابر) رخنہ پڑ گیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں مولانا لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

اولاً: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ساتویں صدی مسیحی میں یاجوج و ماجوج کی روک کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اتنی نہیں کھلی تھی کہ قدم باہر بڑھا سکیں۔ یہ حقیقت خواب میں اس طرح دکھائی گئی، جیسے ایک دیوار ہے اور اس میں ذرا سا سوراخ بن گیا ہے۔ چنانچہ تاریخ اس کی ہو بہو تصدیق کرتی ہے۔ ٹھیک یہی زمانہ ہے جب منگولی قبائل نے اس راہ کے علاوہ جسے ذوالقرنین بند کر چکا تھا، ایک دوسری راہ کا سراغ پایا۔ یعنی بحر خزر اور بحر اسود کی درمیانی راہ کی جگہ بحیرہ یورال اور بحر خزر کا درمیانی راستہ۔ چھٹی صدی میں تاتاریوں کے بعض قبائل اس طرف بڑھ آئے اور دریائے جیجوں کی وادیوں میں آباد ہو گئے۔

ثانیاً: یاجوج و ماجوج کے ظہور میں عرب کے لئے ہلاکت تھی، کیونکہ ”ویلل العرب“ فرمایا ”للسلمین“ نہیں فرمایا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نسل عربی اقتدار و عروج کے انقراض کا باعث ہوئی، وہ یہی منگولی نسل ہے۔ اس لیے یقیناً یاجوج و ماجوج سے مقصود یہی نسل تھی۔ عربی اقتدار کی ہلاکت کی ابتدا

بھی اسی نسل کی مختلف شاخوں سے ہوئی۔ یعنی ترکوں اور سلجوقیوں سے اور انتہا بھی اسی کے نئے ظہور سے ہوئی۔ یعنی منگولی اور تاتاریوں سے۔<sup>(۳۵)</sup>

یاجوج و ماجوج کی تحقیق کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ سد (دیوار) کہاں واقع ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے؟ اور موجودہ نقشہ میں اسے کس مقام پر ڈھونڈا جاسکتا ہے۔ مولانا تھانویؒ نے صاحب روح المعانی کے حوالے سے اس سوال کا جواب دیا ہے مگر اپنی کوئی رائے اس بارے میں پیش نہیں کی۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”رہا یہ شبہ مخالفین کا کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر اس (سد کا پتہ نہیں ملا اور اسی شبہ کے جواب کے لئے ہمارے مولفین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کا صحیح جواب وہ ہے جس کو صاحب روح المعانی نے اختیار کیا ہے۔ حاصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی و تری کو محیط ہو چکے ہیں واجب التسليم نہیں اور عقلاً یہ جائز ہے کہ امریکہ کی طرح سمندر کے درمیان میں کوئی حصہ زمین کا ایسا ہو جہاں اب تک رسائی نہ ہوئی ہو۔“<sup>(۳۶)</sup>

تاہم مولانا آزادؒ نے اس سد کا مقام کاکیشیا کے پہاڑی سلسلے کے آخر میں واقع دیوار در بند اور درہ داریال کو قرار دیا ہے۔ عرب مورخین نے ان کی تعمیر کو نوشیر واں عادل بادشاہ کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ مگر مولانا نے ثابت کیا کہ یہ دیوار نوشیر واں (۵۷۹-۵۳۱ ق-م) کے زمانے سے پہلے کی ہے، جسے اس سے پہلے کے مورخین نے اپنی کتب تاریخ میں بیان کیا ہے۔ مغربی مورخین نے اسے سکندر سے منسوب کیا ہے۔ مگر یہ بات اس لیے درست نہیں کہ سکندر کی کسی مہم میں بھی کاکیشیا کی لڑائی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ سد در بند ہے یا درہ داریال ہے یا یہ دونوں ہیں؟ تو مولانا لکھتے ہیں:

”قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچا، اس نے آہنی تختیوں سے کام لیا، اس نے درمیان کا حصہ پاٹ کے برابر کر دیا، اس نے بگھلا ہوا تانبا استعمال کیا۔ تعمیر کی یہ تمام خصوصیات کسی طرح بھی در بند کی دیوار پر صادق نہیں آتیں۔ یہ پتھر کی بڑی بڑی سلوں کی دیوار ہے اور دو پہاڑی دیواروں کے درمیان نہیں ہے بلکہ سمندر سے پہاڑ کے بلند حصے تک چلی گئی ہے۔ اس میں آہنی تختیوں اور پگھلے ہوئے تانبے کا کوئی نشان نہیں ملتا پس یہ قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سد کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ البتہ درہ داریال کا مقام ٹھیک ٹھیک قرآن کی تصریحات کے مطابق ہے۔ یہ دو پہاڑی چوٹیوں کے

درمیان ہے اور جو سد تعمیر کی گئی ہے۔ اس نے درمیان کی راہ بالکل مسدود کر دی ہے۔۔۔ بہر حال ذوالقرنین کی اصل سد یہی سد ہے۔“ (۳۷)

خلاصہ کلام یہ کہ مولانا آزاد نے سورۃ الکہف کے تشنہ مقامات کی سیر حاصل اور پر مغز تحقیقی تفسیر بیان فرمائی ہے اور زمانہ حال کے معترضین کو جو قرآن کے اس مقام کو اپنے معاندانہ استہزاء کا سب سے زیادہ نشانہ بناتے تھے، انتہائی مدلل اور علمی جواب دیا ہے۔ بلاشبہ یہ اور اسی طرح کے دیگر بہت سے مقامات پر مولانا نے انتہائی دقیق اور مشکل مقامات کو بہت خوبصورت اور اچھوتے پیرائے میں بیان فرمایا ہے، جن پر متقدمین نے بحث کرنے میں خود کو عاجز سمجھا ہے۔ آج جب کے ہمیں علم و تحقیق کے جدید وسائل میسر ہیں، اس بات کا تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے سورۃ الکہف جیسے قرآن کریم کے مشکل مقامات کی علمی و سائنسی تشریح و توجیہ پیش کریں۔ اس عمل سے جہاں مولانا آزاد اور ان جیسے دیگر محققین کی علمی معروضات کو جدید تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جاسکے گا وہیں اس حوالے سے پایا جانے والا علمی خلا بھی پورا ہو سکے گا۔

### حوالہ جات

- (۱) آزاد، ابوالکلام، مولانا، ترجمان القرآن، ساہتیہ اکیڈمی، دہلی، ج ۱، ص ۵۹
- (۲) مرجع سابق، ج ۱، ص ۶۳
- (۳) مرجع سابق، ج ۱، ص ۶۳-۶۴
- (۴) مرجع سابق، ج ۱، ص ۱۷
- (۵) الکہف، آیت ۲۳-۲۴
- (۶) تھانوی، اشرف علی، مولانا، بیان القرآن، مکتبۃ الحسن، لاہور، س-ن، ج ۲، ص ۲۳۸
- (۷) دہلوی، احمد سعید، کشف الرحمن، محمد مسلم بن برکت اللہ، کراچی، ۱۹۶۵ء، ج ۱، ص ۴۶۸
- (۸) دریابادی، عبدالماجد، مولانا، تفسیر ماجدی، مجلس نشریات اسلام، کراچی، ج ۳، ص ۹۷
- (۹) ترجمان القرآن، ج ۲، ص ۳۹۳
- (۱۰) مرجع سابق، ج ۲، ص ۳۹۴
- (۱۱) عثمانی، شبیر احمد، مولانا، تفسیر عثمانی، دارالتصنیف لمیٹڈ، کراچی، ۱۳۹۵ھ، ص ۳۸۱
- (۱۲) تفسیر ماجدی، ج ۳، ص ۹۶
- (۱۳) سورۃ الکہف، آیت ۱۷
- (۱۴) بیان القرآن، ج ۲، ص ۲۳۲

- (۱۵) کشف الرحمن، ج ۱، ص ۴۷۱
- (۱۶) تفسیر ماجدی، ج ۳، ص ۱۰۱
- (۱۷) ترجمان القرآن، ج ۲، ص ۳۹۵
- (۱۸) مرجع سابق، ج ۲، ص ۳۹۸
- (۱۹) بیان القرآن، ج ۲، ص ۲۵۴
- (۲۰) تفسیر عثمانی، ص ۳۹۲
- (۲۱) کشف الرحمن، ج ۲، ص ۴۸۴
- (۲۲) تفسیر ماجدی، ج ۳، ص ۱۵۱
- (۲۳) ترجمان القرآن، ج ۲، ص ۴۰۰
- (۲۴) مرجع سابق، ج ۲، ص ۴۰۱
- (۲۵) مرجع سابق، ج ۲، ص ۴۰۵
- (۲۶) مرجع سابق، ج ۲، ص ۴۱۰
- (۲۷) مرجع سابق، ج ۲، ص ۴۱۶
- (۲۸) سورة الکہف، آیت ۸۵
- (۲۹) ترجمان القرآن، ج ۲، ص ۴۳۰
- (۳۰) تفسیر عثمانی، ص ۳۹۳
- (۳۱) کشف الرحمن، ج ۲، ص ۳۸۴
- (۳۲) تفسیر ماجدی، ج ۳، ص ۸۵۱
- (۳۳) ترجمان القرآن، ج ۲، ص ۱۲۲
- (۳۴) مرجع سابق، ج ۲، ص ۳۹۲
- (۳۵) مرجع سابق، ج ۲، ص ۵۲۲
- (۳۶) بیان القرآن، ج ۲، ص ۵۲
- (۳۷) ترجمان القرآن، ج ۲، ص ۹۲۲